

برسات کا موسم

برسات کا موسم بلاشبہ سبھی کو پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ چلچلاتی گرمی کے خاتمے کا عارضی سبب بنتا ہے اور تیز دھوپ سے راحت فراہم کرتا ہے۔ تاہم یہ موسم پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موسم میں چند احتیاتی تدابیر اختیار کر کے پریشانی سے بچا جاسکتا ہے۔

1- بجلی کے پول اور تاروں سے دور رہیں

بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے سے جانی نقصان کی خبریں بھی عام ہو گئی ہیں جس میں زیادہ تر ہماری غفلت شامل ہوتی ہے لہذا ایسے موسم میں بجلی کے پول اور خاص کر گرمی ہوئی تاروں سے فاصلہ رکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔

2- گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں

بارشوں کے موسم میں گھروں میں پانی بھر جانا ایک بڑا مسئلہ ہے جس سے لوگوں کا کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے آپ بارشوں کے موسم میں گھر کی کھڑکیاں اور دروازے اچھے طریقے سے بند رکھیں تاکہ پانی گھر میں داخل نہ ہو سکے اور چھروں سے بھی بچا جاسکے۔

3- بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور کھڑے پانی سے گزرنے سے گریز کریں

بارش کے موسم میں پہلے تو بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور خاص کر جہاں پانی زیادہ کھڑا ہو وہاں کھلے گٹر بھی ہو سکتے ہیں جس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔

4- گاڑی کی رفتار کم رکھیں

موسم سون کے موسم میں ڈرائیونگ کرنا آسان نہیں کیونکہ اس موسم میں سڑکیں گیلی ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کے پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران اچانک ٹرن اور بریک مارنے سے گریز کریں جب کہ آگے والی گاڑی سے فاصلہ رکھیں، بڑی گاڑیوں سے دور رہیں اور ہیڈ لائٹ آن کر دیں تاکہ آپ کی گاڑی دوسروں کو بھی نظر آئے۔

5- برقی آلات کے پلگ کو ساکٹ سے نکال دیں

بارش کے موسم میں بجلی کی حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ایک لازمی ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود تمام برقی آلات کو ان پلگ کر دیں کیونکہ اس موسم میں وولٹیج کے کبھی کم تو کبھی زیادہ ہونے سے شارٹ سرکٹ کا خدشہ ہوتا ہے۔